


EN

Use wireless charger or USB-C. Amber/white light = charging. White light = charged.



CHS

可使用无线充电板或是USB-C充电线。充电时会闪橙色/白色灯，完全充满时呈白色灯，不会闪烁。

CHT

可使用無線充電盤或是USB-C充電線。充電時會閃橙色/白色燈，完全充滿時呈白色燈，不會閃爍。

JP

USB Type-Cケーブルまたはワイヤレス充電器を使用して下さい。充電中はLEDライトがオレンジと白色に点滅、満充電で白色に点灯します。

KR

충전은 USB Type-C 케이블 또는 무선충전기를 사용해 주십시오. 충전 중에는 LED 불빛이 오렌지와 흰색으로, 완충 시 흰색으로 점등됩니다.

DE

Drahtloses Ladegerät oder USB-C verwenden. Gelbes/weißes Licht = Laden. Weißes Licht = Geladen.

FR

Utilisez chargeur sans fil/USB-C. Voyant orange = en charge. Voyant blanc = chargé.

AR

استخدم شاحن لاسلكي أو شاحن يو اسي بي. تحول اللون بين ضوء العمير والبييض = شحن. الضوء الأبيض = مشحون.

SE

Använd trådlös laddare eller USB-C. Orange ljus = laddar. Vitt ljus = fulladdad.

SI

Uporabite brezžični polnilnik ali kabel USB-C. Oranžna/bela lučka = polnjenje. Bela lučka = napolnjeno.

RU

Беспроводная зарядка или USB-C. Желтый/белый свет - зарядка в процессе. Белый свет - заряжено.

ES

Use cargador inalámbrico o USB-C. Luz ámbar/blanca = cargando. Luz blanca = cargado.

CZ

Použijte bezdrátovou nabíječku nebo konektor USB-C. Oranžová/bílá dioda = probíhá nabíjení. Bílá dioda = nabíjení dokončeno.

SK

Používajte bezdrôtovú nabíjačku alebo USB-C. Žlté/biele svetlo = nabíjanie. Biele svetlo = nabité.

PH

Ang LED ay nagbi-blink ng amber light kapag mahina ang baterya (0-25%), at white light sa pagitan ng 26%-100%

HR

Upotrijebite bežični punjač ili priključak USB-C za punjenje. Jantarno/bijelo svjetlo = punjenje u tijeku. Bijelo svjetlo = napunjeno.

JP

バッテリー残量25%以下の場合、LEDライトがオレンジ色に点滅し、バッテリー残量26~100%の場合は白色に点滅します。

KR

배터리 잔량 0-25%: LED불빛이 깜빡거림 배터리 잔량 26-100%: LED 불빛이 흰색으로 변함

DE

LED blinkt gelb bei schwachem Akku (0-25 %) und weiß bei 26-100 %.

FR

La LED clignote orange si batterie faible (0-25 %), et blanc entre 26 % et 100 %

AR

استخدم شاحن لاسلكي أو شاحن يو اسي بي. تحول اللون بين ضوء العمير والبييض = شحن. الضوء الأبيض = مشحون.

SE


Använd trådlös laddare eller USB-C. Orange ljus = laddar. Vitt ljus = fulladdad.

SI

Upotrijebite bežični punjač ili priključak USB-C za punjenje. Jantarno/bijelo svjetlo = punjenje u tijeku. Bijelo svjetlo = napunjeno.

EN

LED blinks amber light when low battery (0-25%), and white light between 26%-100%



AR

باللون الكهرماني عند LED يومض مصباح انخفاض البطارية (0-25%) . والوضوء الأبيض بين 26%-100%

CHS

LED橙色灯闪烁：电量剩余0-25% LED白色灯闪烁：电量剩余26-100%

CHT

LED橙色燈閃爍：電量剩餘0-25% LED白色燈閃爍：電量剩餘26-100%

JP

バッテリー残量25%以下の場合、LEDライトがオレンジ色に点滅し、バッテリー残量26~100%の場合は白色に点滅します。

KR

배터리 잔량 0-25%: LED불빛이 깜빡거림 배터리 잔량 26-100%: LED 불빛이 흰색으로 변함

DE

LED blinkt gelb bei schwachem Akku (0-25 %) und weiß bei 26-100 %.

FR

La LED clignote orange si batterie faible (0-25 %), et blanc entre 26 % et 100 %

AR

استخدم شاحن لاسلكي أو شاحن يو اسي بي. تحول اللون بين ضوء العمير والبييض = شحن. الضوء الأبيض = مشحون.

PH

Ang LED ay nagbi-blink ng amber light kapag mahina ang baterya (0-25%), at white light sa pagitan ng 26%-100%

SI

LED utripta rumeno, ko je baterija skoraj prazna (0-25%) in bela svetloba med 26%-100%

RU

Светодиод мигает желтым при зарядке батареи (0-25%) и белым светом в диапазоне 26%-100%.

ES

El LED parpadea en ámbar: batería baja (0-25%), luz blanca: carga entre 26-100%

CZ

LED bliká žlutě, když je baterie vybitá (0-25%) a bílé světlo mezi 26%-100%

SK


LED bliká žltým svetlom, keď je batéria takmer vybitá (0-25 %) a bielym svetlom pri nabití medzi 26 %-100 %

PH

Ang LED ay nagbi-blink ng amber light kapag mahina ang baterya (0-25%), at white light sa pagitan ng 26%-100%

EN

Place earphones in charging case & close lid to turn off. Open the lid to turn on.



CHS

耳机放入充电盒后关上盖子即关闭，打开盖子即开启。

CHT

耳機放入充電盒後關上蓋子即關閉，打開蓋子即開啟。

JP

電源を切る際は、充電ケースにイヤホン本体を収納し、フタを閉めて下さい。イヤホンの電源はフタを開けるとすぐにオンになります。

KR

전원을 끌 때는 충전 케이스안에 이어폰 본체를 넣은 후 뚜껑을 닫아 주세요. 이어폰의 전원은 충전 케이스의 뚜껑을 열면 바로 켜집니다.

DE

Zum Ausschalten Ohrhörer in die Ladehülle legen & Deckel schließen. Deckel öffnen, um sie einzuschalten.

FR

Placez les écouteurs dans le boîtier et fermez pour éteindre. Ouvrez pour allumer.

AR

استخدم شاحن لاسلكي أو شاحن يو اسي بي. تحول اللون بين ضوء العمير والبييض = شحن. الضوء الأبيض = مشحون.

SE

Använd trådlös laddare eller USB-C. Orange ljus = laddar. Vitt ljus = fulladdad.

SI

Upotrijebite bežični punjač ili priključak USB-C za punjenje. Jantarno/bijelo svjetlo = punjenje u tijeku. Bijelo svjetlo = napunjeno.

PH

Ang LED ay nagbi-blink ng amber light kapag mahina ang baterya (0-25%), at white light sa pagitan ng 26%-100%

SI

LED utripta rumeno, ko je baterija skoraj prazna (0-25%) in bela svetloba med 26%-100%

RU

Светодиод мигает желтым при зарядке батареи (0-25%) и белым светом в диапазоне 26%-100%.

ES

El LED parpadea en ámbar: batería baja (0-25%), luz blanca: carga entre 26-100%

CZ

LED bliká žlutě, když je baterie vybitá (0-25%) a bílé světlo mezi 26%-100%

SK

LED bliká žltým svetlom, keď je batéria takmer vybitá (0-25 %) a bielym svetlom pri nabití medzi 26 %-100 %

PH


Ang LED ay nagbi-blink ng amber light kapag mahina ang baterya (0-25%), at white light sa pagitan ng 26%-100%

SI

Upotrijebite bežični punjač ili priključak USB-C za punjenje. Jantarno/bijelo svjetlo = punjenje u tijeku. Bijelo svjetlo = napunjeno.

EN

Place earphones in charging case & close lid to turn off. Open the lid to turn on.



CHS

耳机放入充电盒后关上盖子即关闭，打开盖子即开启。

CHT

耳機放入充電盒後關上蓋子即關閉，打開蓋子即開啟。

JP

電源を切る際は、充電ケースにイヤホン本体を収納し、フタを閉めて下さい。イヤホンの電源はフタを開けるとすぐにオンになります。

KR

전원을 끌 때는 충전 케이스안에 이어폰 본체를 넣은 후 뚜껑을 닫아 주세요. 이어폰의 전원은 충전 케이스의 뚜껑을 열면 바로 켜집니다.

DE

Zum Ausschalten Ohrhörer in die Ladehülle legen & Deckel schließen. Deckel öffnen, um sie einzuschalten.

FR

Placez les écouteurs dans le boîtier et fermez pour éteindre. Ouvrez pour allumer.

AR

استخدم شاحن لاسلكي أو شاحن يو اسي بي. تحول اللون بين ضوء العمير والبييض = شحن. الضوء الأبيض = مشحون.

SE


Använd trådlös laddare eller USB-C. Orange ljus = laddar. Vitt ljus = fulladdad.

SI

Upotrijebite bežični punjač ili priključak USB-C za punjenje. Jantarno/bijelo svjetlo = punjenje u tijeku. Bijelo svjetlo = napunjeno.

EN

Place earphones in charging case & close lid to turn off. Open the lid to turn on.



CHS

耳机放入充电盒后关上盖子即关闭，打开盖子即开启。

CHT

耳機放入充電盒後關上蓋子即關閉，打開蓋子即開啟。

JP

電源を切る際は、充電ケースにイヤホン本体を収納し、フタを閉めて下さい。イヤホンの電源はフタを開けるとすぐにオンになります。

KR

전원을 끌 때는 충전 케이스안에 이어폰 본체를 넣은 후 뚜껑을 닫아 주세요. 이어폰의 전원은 충전 케이스의 뚜껑을 열면 바로 켜집니다.

DE

Zum Ausschalten Ohrhörer in die Ladehülle legen & Deckel schließen. Deckel öffnen, um sie einzuschalten.

FR

Placez les écouteurs dans le boîtier et fermez pour éteindre. Ouvrez pour allumer.

AR

استخدم شاحن لاسلكي أو شاحن يو اسي بي. تحول اللون بين ضوء العمير والبييض = شحن. الضوء الأبيض = مشحون.

SE

Använd trådlös laddare eller USB-C. Orange ljus = laddar. Vitt ljus = fulladdad.

SI

Upotrijebite bežični punjač ili priključak USB-C za punjenje. Jantarno/bijelo svjetlo = punjenje u tijeku. Bijelo svjetlo = napunjeno.

EN

Place earphones in charging case & close lid to turn off. Open the lid to turn on.



CHS

耳机放入充电盒后关上盖子即关闭，打开盖子即开启。

CHT

耳機放入充電盒後關上蓋子即關閉，打開蓋子即開啟。

JP

電源を切る際は、充電ケースにイヤホン本体を収納し、フタを閉めて下さい。イヤホンの電源はフタを開けるとすぐにオンになります。

KR

전원을 끌 때는 충전 케이스안에 이어폰 본체를 넣은 후 뚜껑을 닫아 주세요. 이어폰의 전원은 충전 케이스의 뚜껑을 열면 바로 켜집니다.

DE

Zum Ausschalten Ohrhörer in die Ladehülle legen & Deckel schließen. Deckel öffnen, um sie einzuschalten.

FR

Placez les écouteurs dans le boîtier et fermez pour éteindre. Ouvrez pour allumer.

AR

استخدم شاحن لاسلكي أو شاحن يو اسي بي. تحول اللون بين ضوء العمير والبييض = شحن. الضوء الأبيض = مشحون.

SE


Använd trådlös laddare eller USB-C. Orange ljus = laddar. Vitt ljus = fulladdad.

SI

Upotrijebite bežični punjač ili priključak USB-C za punjenje. Jantarno/bijelo svjetlo = punjenje u tijeku. Bijelo svjetlo = napunjeno.

EN

Place earphones in charging case & close lid to turn off. Open the lid to turn on.



CHS

耳机放入充电盒后关上盖子即关闭，打开盖子即开启。

CHT

耳機放入充電盒後關上蓋子即關閉，打開蓋子即開啟。

JP

電源を切る際は、充電ケースにイヤホン本体を収納し、フタを閉めて下さい。イヤホンの電源はフタを開けるとすぐにオンになります。

KR

전원을 끌 때는 충전 케이스안에 이어폰 본체를 넣은 후 뚜껑을 닫아 주세요. 이어폰의 전원은 충전 케이스의 뚜껑을 열면 바로 켜집니다.

DE

Zum Ausschalten Ohrhörer in die Ladehülle legen & Deckel schließen. Deckel öffnen, um sie einzuschalten.

FR

Placez les écouteurs dans le boîtier et fermez pour éteindre. Ouvrez pour allumer.

AR

استخدم شاحن لاسلكي أو شاحن يو اسي بي. تحول اللون بين ضوء العمير والبييض = شحن. الضوء الأبيض = مشحون.

SE


Använd trådlös laddare eller USB-C. Orange ljus = laddar. Vitt ljus = fulladdad.

SI

Upotrijebite bežični punjač ili priključak USB-C za punjenje. Jantarno/bijelo svjetlo = punjenje u tijeku. Bijelo svjetlo = napunjeno.

EN

Place earphones in charging case & close lid to turn off. Open the lid to turn on.



CHS

耳机放入充电盒后关上盖子即关闭，打开盖子即开启。

CHT

耳機放入充電盒後關上蓋子即關閉，打開蓋子即開啟。

JP

電源を切る際は、充電ケースにイヤホン本体を収納し、フタを閉めて下さい。イヤホンの電源はフタを開けるとすぐにオンになります。

KR

전원을 끌 때는 충전 케이스안에 이어폰 본체를 넣은 후 뚜껑을 닫아 주세요. 이어폰의 전원은 충전 케이스의 뚜껑을 열면 바로 켜집니다.

DE

Zum Ausschalten Ohrhörer in die Ladehülle legen & Deckel schließen. Deckel öffnen, um sie einzuschalten.

FR

Placez les écouteurs dans le boîtier et fermez pour éteindre. Ouvrez pour allumer.

AR

استخدم شاحن لاسلكي أو شاحن يو اسي بي. تحول اللون بين ضوء العمير والبييض = شحن. الضوء الأبيض = مشحون.

SE


Använd trådlös laddare eller USB-C. Orange ljus = laddar. Vitt ljus = fulladdad.

SI

Upotrijebite bežični punjač ili priključak USB-C za punjenje. Jantarno/bijelo svjetlo = punjenje u tijeku. Bijelo svjetlo = napunjeno.

EN

Place earphones in charging case & close lid to turn off. Open the lid to turn on.



CHS

耳机放入充电盒后关上盖子即关闭，打开盖子即开启。

CHT

耳機放入充電盒後關上蓋子即關閉，打開蓋子即開啟。

JP

電源を切る際は、充電ケースにイヤホン本体を収納し、フタを閉めて下さい。イヤホンの電源はフタを開けるとすぐにオンになります。

KR

전원을 끌 때는 충전 케이스안에 이어폰 본체를 넣은 후 뚜껑을 닫아 주세요. 이어폰의 전원은 충전 케이스의 뚜껑을 열면 바로 켜집니다.

DE

Zum Ausschalten Ohrhörer in die Ladehülle legen & Deckel schließen. Deckel öffnen, um sie einzuschalten.

FR

Placez les écouteurs dans le boîtier et fermez pour éteindre. Ouvrez pour allumer.

AR

استخدم شاحن لاسلكي أو شاحن يو اسي بي. تحول اللون بين ضوء العمير والبييض = شحن. الضوء الأبيض = مشحون.

SE

Använd trådlös laddare eller USB-C. Orange ljus = laddar. Vitt ljus = fulladdad.

SI

Upotrijebite bežični punjač ili priključak USB-C za punjenje. Jantarno/bijelo svjetlo = punjenje u tijeku. Bijelo svjetlo = napunjeno.

EN

Place earphones in charging case & close lid to turn off. Open the lid to turn on.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!